

Voice of Global South Summit

January 06, 2023

بین الاقوامی جنوبی چوٹی اجلاس کی آواز
جنوری 06، 2023

ایک منفرد قدم کے طور پر ہندوستان 12-13 جنوری، 2023 کو ایک خصوصی ورچول چوٹی اجلاس کی میزبانی کرے گا۔ اس چوٹی اجلاس کا موضوع "وائس آف گلوبل ساؤتھ سمٹ" کے تھیم کے تحت "آواز کی وحدت، مقصدیت کی وحدت" ہے جس کا اولین مقصد پورے جنوبی ممالک کو ایک مشترکہ پلیٹ فارم پر اپنے نقطہ نظر اور ترجیحات شیئر کرنے کی غرض سے اکٹھا ہے۔ اس چوٹی اجلاس میں 120 سے زیادہ ممالک کو شرکت کی دعوت دی جا رہی ہے۔

یہ پہلے وزیر اعظم نریندر مودی کی بصیرت سب کا ساتھ سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس سے متحرک ہے اور ہندوستان کے فلسفہ واسودیوو کٹمبکم کے زیر تاثیر ہے۔

ہندوستان اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کرے گا کہ وائس آف گلوبل ساؤتھ سمٹ کے مباحثے میں شراکت دار ممالک سے حاصل ہونے والے قیمتی انپٹ کو عالمی سطح پر مناسب ادراک حاصل ہو۔

علاوہ ازیں جی 20 کی ہندوستان کی جاری صدارت ان ممالک کے لیے ایک خاص اور مضبوط موقع فراہم کرتی ہے جو جی 20 پروسیس کا حصہ نہیں ہیں تاکہ وہ جی 20 سے اپنے خیالات اور توقعات کا اظہار کر سکیں۔ یہ وزیر اعظم کے اس بیان کے عین موافق ہے کہ ہندوستان کی جی 20 صدارت نہ صرف ہمارے G20 شراکت داروں بلکہ گلوبل ساؤتھ میں ہمارے ساتھی مسافروں کی مشاورت سے تشکیل دی جائے گی، جن کی آواز اکثر ان سنی کر دی جاتی ہے۔

چوٹی اجلاس میں دس سیشنز منعقد کیے جانے کا خیال ہے۔ چار سیشن 12 جنوری کو اور چھ سیشن 13 جنوری کو ہوں گے۔ ہر سیشن میں 10-20 ممالک کے رہنماؤں/ وزراء کی شرکت متوقع ہے۔

افتتاحی اور اختتامی سیشن سربراہان مملکت/حکومت کی سطح پر ہوں گے اور اس کی میزبانی بذات خود وزیر اعظم کریں گے۔ افتتاحی سیشن میں موجود لیڈروں کے لیے موضوع ہوگا "وائس آف گلوبل ساؤتھ - فار ہیومن سنٹرک ڈولپمنٹ" ہے اور اختتامی لیڈروں کے لیے مختص سیشن کا موضوع ہوگا "اتحاد کی آواز-مقصد کی وحدت"۔

اس کے علاوہ، اس چوٹی اجلاس میں 5 وزارتی سطح کے سیشنز ہوں گے، جن کے درج ذیل موضوعات ہوں گے:

- عوام پر مبنی ترقی کی مالی اعانت" پر وزرائے خزانہ سیشن سے خطاب کریں گے
- ماحولیات سے متعلق وزراء کا سیشن "ماحول دوست طرز زندگی (لائف) کے ساتھ ترقی میں توازن" کے موضوع پر ہوگا۔
- "گلوبل ساؤتھ کی ترجیحات - سازگار ماحول کی یقینی" کے موضوع پر وزرائے خارجہ کے سیشن مختص ہے
- "توانائی کی بچت اور ترقی - خوشحالی کا لائحہ عمل" پر توانائی سے متعلق وزراء کا سیشن ہوں گے۔
- "حفاظت کی صحت کی دیکھ بھال کے نظام کی تعمیر میں تعاون" کے موضوع پر وزراء کا اجلاس

- "انسانی وسائل کی ترقی اور صلاحیت سازی" کے موضوع پر وزرائے تعلیم کا سیشن
- "گلوبل ساؤتھ میں ہم آہنگی کی ترقی - تجارت، ٹیکنالوجی، سیاحت اور وسائل" کے موضوع پر تجارت اور کامرس وزراء کا سیشن
- "G-20: ہندوستان کی صدارت کے لیے تجاویز" موضوع پر وزرائے خارجہ کا سیشن

مذکورہ سربراہان اجلاس سے متعلق مزید تفصیلات مقررہ اوقات میں فراہم کی جائیں گی۔

جنوری 06، 2023

نئی دہلی

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA's website and may be referred to as the official press release.